

# Bilal

Kya Hazrate Bilal Ka Rang Kaala Tha?

Ek  
Tehgeegi  
Tehneen

# **KYA HAZRATE BILAL KA RANG KAALA THA? EK TEHQEEQI TEHREER**

**PRESENTED BY :  
ABDE MUSTAFA OFFICIAL**

---

We Are Thankful To

---

**HAZRAT ALLAMA ALI RAZA QADRI ASHRAFI**

---



---

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Aksar Logon Ki Zubano Par Ye Baat Mash'hoor Hai Ke  
Hazrate Bilal Radiallaho Ta'ala Anho Ka Rang Kaala  
Tha, Hatta Ke Kuchh Kitabo Mein Bhi Yahi Likha Hai  
Magar Humara Dawa Hai Ke Hazrate Bilal Radiallaho  
Ta'ala Anho Ka Rang Kaala Nahin Tha Balki Gandumi  
Tha Chunanche Is Par Kayi Tarah Ke Dalail Maujood  
Hain Jin Mein Se Pehli Daleel Ye Riwayat Hai,

### عن مکحول قال: حدثنا من رأى بلا بلا، رجال آدم، شدید الادمة

- (الطبقات الکبری لابن سعد، جلد 2، صفحہ نمبر 127) (متدرک للحاکم، جلد 3، صفحہ نمبر 495)  
(سیر اعلام النبلاء، جلد 3، صفحہ نمبر 218) (تاریخ الاسلام، جلد 3، صفحہ نمبر 391)  
(تاریخ الابن عساکر، جلد 6، صفحہ نمبر 252) (الاستیعاب، صفحہ نمبر 120)  
(معرفة الصحابة، جلد 1، صفحہ نمبر 333) (اسد الغاہ، جلد 1، صفحہ نمبر 131)  
(صفۃ الصفوۃ، صفحہ نمبر 117) (البدایہ والنھایہ، جلد 5، صفحہ نمبر 139)  
(جامع المسانید والسنن، جلد 2، صفحہ نمبر 386)  
(تاریخ الخمیس، جلد 2، صفحہ نمبر 252)  
(بیہقی الصحابة، جلد 1، صفحہ نمبر 257)  
(جامع الآثار، جلد 5، صفحہ نمبر 2809)  
(اصحاب البدایہ والنھایہ، صفحہ نمبر 107)  
(مدارج النبوة، جلد 2، صفحہ نمبر 584)  
(تحذییف الکمال، جلد 4، صفحہ نمبر 290)

---

Yaani, Makhool Kehte Hain Ke: Mujhe Hazrate Bilal Radiallaho Ta'ala Anho Ki Ziyarat Karne Waale Ek Shakhs Ne Bayaan Kiya Ke: Aap Radiallaho Ta'ala Anho Sakht Gandumi Rang Waale The  
Saabit Hua Ke Hazrate Sayyiduna Bilal Radiallaho Ta'ala Anho Ka Rang Kaala Nahin Balki Gandumi Tha  
Jo Riwayat Humne Bayaan Ki Us Mein Ek Lafz Aaya  
Hai (شہید ازاد مدد)

Yaani "Sakht Gandumi" Aur Ho Sakta Hai Ke Koi Ise Padh Kar Ye Samajh Baithe Ke Hazrat Bilal Radiallaho Ta'ala Anho Ka Rang Sakht Gandumi Yaani Kaala Tha Kyunki Imam Zahbi Likhte Hain Ke Jis Cheez Par Kaala Rang Ghalib Aa Jaaye Use Arab "Aswad" Ya "Sakht Gandumi" Kehte Hain

(تاریخ اسلام، جلد 3، صفحہ نمبر 625)

Iska Jawab Ye Hai Ke Agar Imam Zahbi Ki Is Ibarat Se Ye Murad Liya Jaaye Ke Sakht Gandumi Ka Itlaaq Kaale Rang Par Hota Hai To Phir Ye Falsafa Durust Nahin Hai Kyunki Kayi Jaleelul Qadr Hastiyo Ke Liye Is Lafz Ka Istemat Kiya Gaya Hai Jinke Baare Mein Manna Namumkin Hai Ke Unka Bhi Rang Kaala Tha, Maslan:

---

---

Hazrat Umar Faruque Radiallaho Ta'ala Anho Ke  
Baare Mein Bhi Yahi Aaya Hai Ke Aap Ka Rang Sakht  
Gandumi Tha

(تاریخ ابن عساکر، جلد 24، صفحہ نمبر 194)

Hazrat Ali Radiallaho Ta'ala Anho Ke Liye Bhi Yahi  
Aaya Hai

(طبقات ابن سعد، جلد 2، صفحہ نمبر 16) (سیر اعلام النبلاء، جلد 2، صفحہ نمبر 496)

(تاریخ اسلام، جلد 3، صفحہ نمبر 137) (سنۃ الصفوہ، صفحہ نمبر 83)

(الکمال فی اسماء الرجال، صفحہ نمبر 58، رقم 458) (تذکرة الخواص، صفحہ نمبر 10)

Hazrat Zaid Bin Harisa Radiallaho Ta'ala Anho Bhi  
Sakht Gandumi The

(طبقات ابن سعد، جلد 2، صفحہ نمبر 26)

(سیر اعلام النبلاء، جلد 3، صفحہ نمبر 141)

(تاریخ اسلام، جلد 3، صفحہ نمبر 310)

(صفۃ الصفوہ، صفحہ نمبر 102)

Hazrat Abdullah Bin Mas'ood Bhi Sakht Gandumi  
The

(سیر اعلام النبلاء، جلد 3، صفحہ نمبر 281)

(تاریخ اسلام، جلد 3، صفحہ نمبر 456)

(صفۃ الصفوہ، صفحہ نمبر 106)

(المرقاۃ، جلد 11، صفحہ نمبر 341)

(الکمال فی اسماء الرجال، صفحہ نمبر 65، رقم 510)

---

---

Hazrat Maaz Bin Jabal Radiallaho Ta'ala Anho Ke  
Liye Bhi Yahi Aaya Hai

(حلیۃ الاولیاء، جلد 1، صفحہ نمبر 303)

Hazrat Usman Bin Maz'oon Radiallaho Ta'ala Anho  
Bhi Sakht Gandumi The

(طبقات ابن سعد، جلد 2، صفحہ نمبر 214)

(سیر اعلام النبلاء، جلد 3، صفحہ نمبر 105)

(تاریخ اسلام، جلد 3، صفحہ نمبر 274)

Hazrat Hakeem Bin Hizam Radiallaho Ta'ala Anho Bhi  
Sakht Gandumi The

(سیر اعلام النبلاء، جلد 4، صفحہ نمبر 211)

(تاریخ اسلام، جلد 4، صفحہ نمبر 101)

Hazrat Owais Qarni Radiallaho Ta'ala Anho Ke Liye  
Bhi Yahi Aaya Hai

(سیر اعلام النبلاء، جلد 4، صفحہ نمبر 523)

(عیون الحکایات، صفحہ نمبر 34، 36)

(ججۃ اللہ، صفحہ نمبر 395)

(روض الریاحین، صفحہ نمبر 164، 167)

Ab Kya Ye Kehna Durust Hoga Ke In Hastiyo Ka Rang  
Kaala Tha?

---

## **TARAJIM MEIN NA INSAFI**

Kayi Kitabo Mein Hazrate Bilal Radiallaho Ta'ala Anho Ka Rang Kaala Likha Gaya Hai Jo Ke Sahih Nahin Hai, Maslan Shaykh Abdul Haque Muhaddise Dehelvi Ki "Madarijun Nuboowat" Ya Deegar Kutub Mein Tarjuma Karte Waqt Insaf Se Kaam Nahin Liya Gaya Hai

"شَدِيدًا لَّذْمَةٌ" Is Ka Tarjuma "Gehra Siyah Rang" Sahih Nahin Hai

## **EK AUR AITRAZ**

Ho Sakta Hai Koi Mustadrak Hakim Ki Is Riwayat Ko Daleel Bana Kar Kahe Ke Hazrat Bilal Radiallaho Ta'ala Anho Ka Rang Kaala Tha,  
Imam Hakim Riwayat Karte Hain Ke, Muhammad Bin Is'haq Kehte Hain Ke Aap Radiallaho Ta'ala Anho Paidaishi Taur Par Kaale The

Is Riwayat Mein "Aswad" Ka Lafz Aaya Hai Aur Iska Maana Karne Waalo Ne Bhi "Kaala Rang" Hi Muraad Liya Hai Lekin Tehqeeq Se Ye Baat Sabit Ho Jaati Hai Ke "Aswad" Ka Matlab Sirl Kaala Nahin Hota Balki Ye Lafz Kayi Maano Mein Mushtarak Hai

---

Lafze "Aswad" Ka Istemal Paani Aur Khajoor Ke Liye  
Bhi Kiya Gaya Hai

(حلية الاولى، جلد 1، صفحه نمبر 479)

(مند ابن الجعد، صفحه نمبر 241، رقم 1589)

(لسان العرب، جلد 2، صفحه نمبر 618)

Is Lafz Ka Istemal Saanp Aur Bichho Ke Liye Bhi  
Kiya Gaya Hai

(الجامع الصغير، صفحه نمبر 83، رقم 1323)

(كنوز الحقائق، جلد 1، صفحه نمبر 85)

(كنز العمال، جلد 7، صفحه نمبر 215)

Is Lafz Ka Istemal Uske Liye Bhi Kiya Jaata Hai Jo  
Door Se Kaala Dikhayi De

(لسان العرب، جلد 2، صفحه نمبر 617)

Is Lafz Ka Istemal Pahaad Ki Choti Aur Us Par Lage  
Jhande Ke Liye Bhi Kiya Jaata Hai

(لسان العرب، جلد 2، صفحه نمبر 623)

Is Lafz Ka Istemal Sabz Rang Ke Liye Bhi Hota Hai

(لسان العرب، جلد 2، صفحه نمبر 619)

Lafze Aswad Ka Istemal Giroh Ya Jama'at Ke Liye  
Bhi Hota Hai

(لسان العرب، جلد 2، صفحه نمبر 618)

---

Lafze Aswad Ka Istemal Raat Aur Garmi Ke Liye Bhi  
Kiya Jaata Hai

(сан العرب، جلد 2، صفحه نمبر 618)

Sakhi Aur Haleem Ke Liye Bhi Is Lafz Ka Istemal  
Hota Hai

(الاكمال في ضعفاء الرجال، جلد 7، صفحه نمبر 267)

(сан العرب، جلد 2، صفحه نمبر 620)

Lafze Aswad Ka Istemal Jinnat Ke Liye Bhi Hota Hai

(جواهر البحار، جلد 1، صفحه نمبر 309)

(فتاوی السکنی، جلد 2، صفحه نمبر 585)

Lafze Aswad Ka Istemal Ahle Ajam Ke Liye Bhi Hota  
Hai

(كنز العمال، جلد 3، صفحه نمبر 332)

Is Lafz Ka Istemal Muazzaz Wa Sardar Ke Liye Bhi  
Hota Hai

(сан العرب، جلد 2، صفحه نمبر 619)

Lafze Aswad Ka Istemal Ghulam Ke Liye Bhi Hota Hai

(تاج العروس، جلد 8، صفحه نمبر 129)

Lafze Aswad Ka Istemal Faqat Habshi Nasal Ke Liye  
Bhi Hota Hai

(كشف الحقائق، جلد 1، صفحه نمبر 202، رقم 692)

---

Hazrat Bilal Radiallaho Ta'ala Anho Ke Liye Jo  
Lafze Aswad Ka Istemal Kiya Gaya Hai Usse Murad  
Habshi Nasal Hai Na Ki Kaala Rang

Isi Riwayat Ka Ek Shahida Hadees Ki Dusri Kitabo  
Mein Maujood Hai Jis Mein Lafze Aswad Ke Bajaye  
Lafze Habash Hai Aur Imam Ibne Jauzi, Imam Abu  
Nayeem Aur Imam Delmi Ki Riwayat Mein Lafze Aswad  
Ki Jagah Lafze Ranji Aaya Hai Aur In Teeno Alfaaz  
Ka Istemal Habshi Nasal Ke Liye Hota Hai

Kayi Kitabo Mein Is Baat Ki Tasreeh Hai Ke Lafze  
Aswad Ka Istemal Faqat Habshi Nasal Ke Liye Bhi  
Hota Hai

(كشف المغاء، جلد 1، صفحه نمبر 202) (كنوز الحقائق، جلد 1، صفحه نمبر 164)

(الجامع الصغير، صفحه نمبر 153) (المقصد الحسن، صفحه نمبر 120)

(للمعجم الكبير) (تاريخ ابن عساكر، جلد 6، صفحه نمبر 232)

Yaad Rahe Ke Lafze Aswad Ka Itlaq Aur Bhi Kayi  
Maano Par Hota Hai Jaise Chidiya, Mubarak, Buzurg,  
Maal, Hadees, Kuwaan, Buri Baat Waghairaha

### KYA HABSHI KAALE HOTE HAIN?

Ek Aitraz Ye Bhi Kiya Jaata Hai Ke Habshi Paidaishi  
Kaale Hote Hain Lihaza Hazrat Bilal Radiallaho Ta'ala  
Anho Bhi Kaale The

---

---

Bade Tajjub Ki Baat Hai Ke Is Baat Ko Daleel Bana  
Kar Hazrat Bilal Radiallaho Ta'ala Anho Ko Kaala  
Sabit Karne Ki Koshish Ki Jaati Hai, Agar Koi Ye  
Kehta Hai Ke Hazrat Bilal Habsha Mein Paida Huye  
Isiliye Aapka Rang Kaala Tha To Hum Puchhte Hain  
Ke Is Baat Ki Kya Daleel Hai Ke Hazrat Bilal  
Radiallaho Ta'ala Anho Habsha Mein Paida Huye?  
Hazrat Bilal Radiallaho Ta'ala Anho Ki Wiladat Ke  
Baare Mein Koi Bhi Qaul Sarahat Se Manqool Nahin  
Hai Chunanche Yaqeen Se Nahin Kaha Ja Sakta Ke Aap  
Kahan Paida Huye Lekin Sabse Mazboot Qaul Ye Hai  
Ke Aap Radiallaho Ta'ala Anho "Saraat" Mein Paida  
Huye Jo Ke Yaman Mein Hai

(تاریخ الابن عسکر) (عمدة القاری)

(معرفة الصحابة) (الاستیعاب)

(مجمع الزوائد) (المجمع الكبير للطبراني)

(الزرقانی على المواهب)

(المستدرک امام حاکم)

(الاصابہ)

(اسد الغابہ)

(مدارج النبوة)

(تحذیب التحذیب)

(سیر اعلام النبلاء)

(تاریخ الاسلام للذہبی)

---

Hazrat Bilal Radiallaho Ta'ala Anho Ki Paidaish  
Saraat Mein Huyi Jo Ke Yaman Mein Waaqey Hai,  
Lekin Agar Maan Bhi Liya Jaaye Ke Aap Radiallaho  
Ta'ala Anho Habsha Mein Paida Huye To Bhi Ye  
Daleel Nahin Ke Hazrat Bilal Radiallaho Ta'ala  
Anho Ka Rang Kaala Tha Kyunki Jab Musalmano Ne  
Habsha Ki Taraf Hijrat Ki To Un Mein Se Kayi  
Afraad Ke Yahan Wahan Bachhe Bhi Paida Huye  
Lekin Wahan Paida Hone Waale Bachho Ke Rang Par  
To Koi Asar Nahin Pada Chunanche Un Mein Se  
Chand Ke Asma Ye Hain:

Hazrat Jafar Tayyar Radiallaho Ta'ala Anho Ke  
Teeno Bete Habsha Mein Paida Huye

(طبقات ابن سعد، جلد 2، صفحہ نمبر 336)

Hazrat Abu Salma Radiallaho Ta'ala Anho Ki  
Sahabzadi Zainab Radiallaho Ta'ala Anha Habsha  
Mein Paida Huyi

(طبقات ابن سعد، جلد 2، صفحہ نمبر 127)

Hazrat Muttalib Bin Azhar Radiallaho Ta'ala Anho  
Ke Sahabzade Radiallaho Ta'ala Anho Habsha Mein  
Paida Huye

(طبقات ابن سعد، جلد 2، صفحہ نمبر 381)

---

Hazrat Haaris Bin Khalid Ke Chaar Bachhe "Moosa,  
Ayesha, Zainab Aur Fatima Radiallaho Ta'ala  
Anhum" Habsha Mein Paida Huye

(طبقات ابن سعد، جلد 2، صفحہ نمبر 282)

Hazrat Aa'yyash Bin Abi Rabia Radiallaho Ta'ala  
Anho Ke Bete Abdullah Radiallaho Ta'ala Anho  
Habsha Mein Paida Huye

(طبقات ابن سعد، جلد 2، صفحہ نمبر 382)

Inke Alawa Aur Bhi Kayi Sahaba Wa Sahabiyaat Ki  
Wiladat Habsha Mein Hui, Ab Sawal Ye Hai Ke  
Agar Habsha Mein Paida Hone Waala Kaala Hota Hai  
To Kya In Sab Hazraat Ko Kaala Maan Liya Jaaye?  
Kya Is Par Koi Daleel Di Ja Sakti Hai? Halanki  
In Mein Se Kisi Ko Bhi Kisi Seerat Likhne Waale  
Ne Kaala To Door Balki Kaala Maayil Bhi Nahin  
Likha

Agar Koi Ye Kahe Ke Habshi Nasal Ke Tamaam Log  
Kaale Hote Hain Lihaza Hazrat Bilal Radiallaho  
Ta'ala Anho Bhi Kaale The To Hum Kahenge Ke Har  
Habshi Kaala Nahin Hota, Chunanche Riwayato Mein  
Hai Ke Hazrat Abu Nezar Radiallaho Ta'ala Anho  
(Hazrat Najjashi Radiallaho Ta'ala Anho Ke  
Shehzade) Logon Mein Buland Qaamat, Haseen

---

---

Chehre Waale Aur Raawi Kehte Hain Ke Inka Rang  
Bhi Habshiyo Ke Rang Ki Tarah Nahin Tha, Agar  
Koi Unhein Dekhta To Kehta Ke Arabi Aadmi Hai







(الروض الانف شرح سيرت ابن ہشام، جلد ۳، صفحہ نمبر ۲۶۳)

Maloom Hua Ke Har Habshi Kaala Nahin Hota, Hazrat  
Abu Nezar Radiallaho Ta'ala Anho Habshi Hone  
Bawjood Saaf Rang Waale The Aur Agar Dekha Jaaye  
To Hazrat Bilal Radiallaho Ta'ala Anho Apne  
Walidain Mein Se Sirf Walida Ki Taraf Se Habshi  
Nasal Ke The

Syed Muhammad Aamir Gilani Likhte Hain Ke, Hazrat  
Bilal Radiallaho Ta'ala Anho Baap Ki Taraf Se Arab  
Aur Maa Ki Taraf Se Ghair Arab Aur Khandan Ka  
Tallluq Aise Qabeelo Se Tha Jo Qadeem Zamane Mein  
Habsha Aur Yaman Ke Darmiyan Aabad The, Isiliye  
Aap Na To Kulli Taur Par Habshi The Aur Na Hi  
Saamiun Nasal Aur Aap Ke Andar In Dono Naslo Ke  
Kulliyatan Awsaaf Nahin Paaye Jaate The  
Jab Ye Baat Saabit Hai Ke Aap Na To Kulli Taur Par  
Habshi The Aur Na Hi Aap Mein Habshiyo Ke Mukammal  
Awsaaf Paaye Jaate The To Ye Bhi Maan Lena Chahiye  
Ke Aap Radiallaho Ta'ala Anho Ka Rang Kaala Nahin  
Tha Aur Is Par Hum Sabiq Mein Dalail Pesh Kar  
Chuke Hain To Ab Kaun Se Cheez Maaney Hai

---

## OUR OTHER PAMPHLETS



AMO